

أَبُو الْبَشَرِ

حضرت آدم علیہ السلام کی خطا

طبرانی حاکم اور آجری کی ان تینوں سندوں میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم موجود ہے جو انتہائی مجروح راوی ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابن المدینی، بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابوحاتم، ابوزرعہ، ابن سعد، جوزجانی، عقیلی، ذہبی، ہیثمی اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن معین فرماتے ہیں: اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہوتی، علامہ ذہبی، عثمان الدارمی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نے فرمایا: وہ ضعیف ہے، ایک اور مقام پر علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں کہ "عبدالرحمن بن زید راوی یعنی مکروہ ہے۔" ابن خزیمہ کا قول ہے "یہ ان میں سے نہیں ہے جس کی حدیث کو ابلی علم حجت جانتے ہیں اور اس کا حافظ خراب ہے۔" طحاوی فرماتے ہیں: "اس کی حدیث علمائے حدیث کے نزدیک انتہائی ضعیف ہوتی ہے۔" ساجی نے اسے "منکر الحدیث" بتایا ہے۔ ابونعیم اور حاکم فرماتے ہیں اپنے والد سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے۔ "امام ابن الجوزی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب "الموضوعات" میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ: "اس کی تضعیف پر علماء نے اتفاق کیا ہے۔" علامہ ہیثمی بھی فرماتے ہیں کہ: "اکثر نے اس کی تضعیف پر اتفاق کیا ہے۔" ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: "اس پر کلام کیا گیا ہے لیکن ابن عدی نے اس کی توثیق کی ہے۔" علامہ مدرسی فرماتے ہیں: "باتفاق علماء ضعیف ہے۔" امام حاکم نے اپنی مستدرک کے ایک اور مقام پر عبدالرحمن بن زید بن اسلم کی ایک دوسری حدیث روایت کی ہے اور اس کی صحیح نہیں فرمائی ہے، لکھتے ہیں کہ "شیخین نے عبدالرحمن بن زید سے احتجاج نہیں کیا ہے۔" حاکم کے اس قول سے تناقص ظاہر ہوتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "حاکم کا اس حدیث کو روایت کرنا سخت قابل مواخذہ ہے کیونکہ خود حاکم نے اپنی کتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من التفریح میں

لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے احادیث موضوعہ روایت کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم باتفاق محدثین ضعیف سے اور بہت کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہے۔ احمد بن حنبلؒ، ابو زرعہؒ، ابو حاتمؒ، النسائیؒ، دارقطنیؒ وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابن حبانؒ کا قول ہے کہ حدیث کو نادانستہ مقلوب کرنا تھا چنانچہ بکثرت مرسل حدیثیں مرفوع بنا دی ہیں اور موقوف متصل ایسے مستحق ترک ہے۔

علامہ ابن عبد البہادیؒ فرماتے ہیں: "خود حاکم نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو اپنی کتاب الضعفاء میں وارد کیا ہے جس کے آخر میں وہ فرماتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ جن کا ذکر میں نے اس سے قبل کیا ہے ان پر جرح میرے نزدیک ظاہر ہے۔ چونکہ جرح بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی پس یہ لوگ وہ ہیں جن پر جرح بدلائل واضح ہے۔ تقلید کسی پر جرح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو اس کو اختیار کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ جن کے نام ہم نے درج کئے ہیں ان میں سے کسی کی حدیث نہ لکھے کیونکہ یہ وہ راوی ہیں جن کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں داخل ہیں۔ مَنْ حَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ دُهِبَ بِهِ أَيْدِيْنَا أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدٌ الْكَافِرِينَ بِحَبْلِ"۔

عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے تفصیلی ترجمہ کے لئے کتاب الضعفاء والمترکین للنسائیؒ "العلل"، لابن حنبلؒ، التاریخ الکبیر للنسائیؒ، التاریخ الصغیر للنسائیؒ، الضعفاء الصغیر للنسائیؒ، المعرفة والتاریخ للبسیویؒ، الضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، الکامل، فی الضعفاء لابن عدیؒ، کتاب المجرورین لابن حبانؒ، کتاب الضعفاء والمترکین للدارقطنیؒ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبیؒ، المعنی فی الضعفاء للذہبیؒ، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، المجموع فی الضعفاء والمترکین للسیوانؒ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد للہیثمیؒ، تنزیہ الشریعہ المرفوعہ لابن عراقی الکنانیؒ، فہر اس مجمع الزوائد للسیوطیؒ للزکول، صحفہ الأحدوی للبارکفوریؒ، تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، کتاب الموضوعات لابن الجوزیؒ، محقق الضعفاء لابن حبانؒ، کشف الأحوال للمدراسیؒ، القاعدہ الجلیدہ فی التوسل والوسیلہ لابن تیمیہؒ، صادم المنکی لابن عبد البہادیؒ، سلسلہ الأحادیث الضعیفہ والموضوعہ

صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰ و صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۲

شوال المکرم۔ ذوالقعدہ ۱۴۱۰ھ

للأبائی اور سلسلہ الأحادیث الصحیحۃ للأبائی وغیرہ کی طوت رجوع فرمائیں۔

محدثین کے پاس کسی حدیث کو پرکھنے کے لئے ایک زریں اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جو با اتفاق اہل علم ضعیف ہو اور موضوعات روایت کرتا ہو تو اس راوی کی کوئی روایت معتبر نہیں سمجھی جائے گی، چنانچہ یہ روایت قطعی غیر معتبر قرار پاتی ہے۔

عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے علاوہ حاکم اور ابوبکر الأجرئی کی دونوں سندوں میں ایک راوی ابوالخاریث عبداللہ بن مسلم الغہری بھی ہے جو عند المحدثین "مجمول" ہے۔ علامہ ذہبی تلخیص المستدرک میں فرماتے ہیں: "اس روایت کو عبداللہ بن مسلم الغہری نے روایت کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟" اور میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں: "اس نے اسماعیل بن مسلم ابن قعب عن عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے ایک باطل خبر یا اذم لولا محمدًا مآک کفکتک روایت کی ہے جسے یہی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے۔" ابن عراق الکنانی فرماتے ہیں کہ باطل خبر روایت کرتا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے میزان الاعتدال للذہبی، تلخیص المستدرک للذہبی، سلسلہ الأحادیث الضعیفہ والموضوعہ للأبائی، لسان المیزان

۱۵ الضعفاء والمترکین للنسائی ترجمہ ۳۱۶، العلل لابن حنبل ج ۱ ص ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، التاریخ الکبیر للبخاری ج ۳ ص ۲۸۴، التاریخ الصغیر للبخاری ج ۲ ص ۲۲۶، الضعفاء الصغیر للبخاری ترجمہ ۲۵۰، المعرفة والتاریخ للبسوی ج ۲ ص ۵۳، الضعفاء الکبیر للقیلی ج ۲ ص ۳۳، الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ج ۱ ص ۲۳۲، کتاب المجرورین لابن حبان ج ۱ ص ۵۷، محقق الضعفاء لابن حبان ج ۱ ص ۶۶، الکامل فی الضعفاء لابن عدی ج ۱ ص ۵۱، ترجمہ ۵۱، کتاب الضعفاء والمترکین للدارقطنی ترجمہ ۳۳، میزان الاعتدال للذہبی ج ۲ ص ۵۴، المعنی فی الضعفاء للذہبی ج ۱ ص ۲۸، تقریب التهذیب لابن حجر ج ۱ ص ۵۸، التهذیب التهذیب لابن حجر ج ۱ ص ۱۶۸-۱۶۹، کشف الأحوال للمدائسی ص ۶، کتاب الموضوعات لابن الجوزی ج ۱ ص ۳۱۵، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ لابن عراق الکنانی ج ۱ ص ۷۸، تحفۃ الأحموزی للمبارکفوری ج ۱ ص ۳۳۳، مجمع الرواؤد للہیثمی ج ۱ ص ۲۱، ج ۲ ص ۷۷، ج ۳ ص ۷۷، ج ۴ ص ۷۷، المجموع فی الضعفاء والمترکین للسیوران ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱

لابن حجر عسقلانیؒ اور تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ لابن عراق الکنانی رحمہ وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔
 علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل عبداللہ بن مسلم بن رشید سے جس کو ابن
 جبانؒ نے وضع حدیث کے لئے متہم بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے ایک جماعت
 نے ہمیں حدیث بیان کی ہے۔ وہ لیث، مالک اور ابن ابیعبہ پر حدیث وضع کرتا تھا۔
 اس کی حدیث لکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر علامہ ابن جبانؒ فرماتے ہیں: "وہ
 ابن ہدیر کے نسخے سے روایت کرتا ہے جو کہ قطعاً بناوٹی ہے۔" علامہ ذہبیؒ اور علامہ ابن عراق
 الکنانیؒ نے بھی اسے وضع حدیث کے ساتھ متہم بیان کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے میزان
 الاعتدال للذہبیؒ، کتاب الجرح وین لابن جبانؒ، کشف الخیث للشیخ برہان الدین حلبیؒ، تنزیہ
 الشریعۃ المرفوعۃ لابن عراق الکنانیؒ، مختصر الضعفاء لابن جبانؒ اور سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ
 والموضوعۃ للألبانی وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

عبدالرحمن بن زید بن اسلم اور ابوالحارث عبداللہ بن مسلم القہری کے علاوہ الآجریؒ
 کی سند میں ابو عبدالرحمن بن عبداللہ بن اسماعیل بن بنت ابی مریم بھی ایسا راوی ہے جس کا
 ترجمہ معلوم نہیں ہے، اور غیر معروف راوی کی کوئی روایت عند الحدیثین حجت نہیں ہوتی۔
 جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔

زیر نظر حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام طبرانیؒ فرماتے ہیں: حضرت عمرؓ سے اس
 سند کے ساتھ اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری روایت موجود نہیں ہے۔ "لیکن فی الحقیقت
 طبرانیؒ کی سند انتہائی منظم ہے کیونکہ اس میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے علاوہ تینوں
 رواۃ زید بن داؤد بن اسلم الصدقی المعمری، احمد بن سعید المدنی القہری اور عبداللہ بن اسماعیل

لے تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ لابن عراق الکنانیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، ج ۱ ص ۵۰، تلخیص
 المستدرک للذہبیؒ، ج ۲ ص ۶۱، لسان المیزان لابن حجر عسقلانیؒ، ج ۳ ص ۳۶، سلسلۃ الأحادیث
 الضعیفۃ۔ والموضوعۃ للألبانیؒ، ج ۱ ص ۳۹۔

لے میزان الاعتدال للذہبیؒ، ج ۲ ص ۵۰، کتاب الجرح وین لابن جبانؒ، ج ۱ ص ۴۴، مختصر الضعفاء
 لابن جبانؒ، ص ۶۴، کشف الخیث للعلبیؒ، ص ۲۵، تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ لابن عراق الکنانیؒ، ج ۱ ص ۵۶
 وسلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ للألبانیؒ، ج ۱ ص ۳۹۔

المدنی مجہول ہیں۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم جو اس سند میں ایک معروف راوی ہے انتہائی ضعیف اور مجروح ہے۔ اس کا ترجمہ اوپر گذر چکا ہے۔ باقی روایہ کے غیر معروف ہونے کو شہادت علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمیؒ (م ۸۵۰ھ) نے بھی دی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: "اس حدیث کو طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا ہے، اس میں ایسے روایہ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا کہ کون ہیں۔" علامہ ہیثمیؒ کے اس قول کا ذکر خود مولانا زکریا صاحب مرحوم نے بھی حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرمایا ہے، لیکن مصلحتاً اس کا اردو ترجمہ نہیں فرمایا ہے۔ بہر حال مشہور بات ہے کہ غیر معروف روایہ کی روایت باتفاق محدثین حجت نہیں ہوتی چنانچہ طبرانیؒ کی روایت ساقط الاحتجاج قرار پاتی ہے۔

امام حاکم نے زیر نظر حدیث کو اپنے طریق سے روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے: "یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس کتاب میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی اور صحیح الاسناد قرار دی ہے۔" لیکن علم حدیث سے واقفیت رکھنے والے تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مجرد حاکمؒ کی تصحیح لائق اعتماد نہیں ہوتی۔ حاکم کے طریق میں ضعیف روایہ کی موجودگی اور خود حاکم کے قول میں تناقض کا موجود ہونا اس روایت کو قطعاً ناقابل اعتماد ٹھہراتا ہے ان شاء اللہ ان سب کا مفصل تذکرہ آگے کیا جائے گا۔

امام بیہقیؒ نے "دلائل النبوة" کے باب "مَا جَاءَ قَبْلَنَا تَحَدَّثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَمَ بِهِ" میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے: "اس میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا تفسر ہے اور وہ خود ضعیف ہے۔" علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں بیہقیؒ کی روایت کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ "باطل خبر ہے علیہ،

ابن عساکرؒ نے جس روایت کی تخریج کی ہے وہ دراصل ابن مسعودؓ کے اصحاب میں سے اہل مدینہ کے کسی شیخ کا موقوفاً مروی قول ہے اور اس کی سند میں بھی مجاہل موجود ہیں۔ امام ابوالفرج ابن الجوزیؒ نے بھی حضرت عمرؓ کی اس حدیث کو "الوقایہ بأحوال المصطفیٰ" میں وارد کیا ہے لیکن نہ اس کی سند بیان کی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی حکم لگایا ہے۔

۱۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد للہیثمیؒ ج ۲ ص ۲۵۳ طبع دارالکتب العربیہ بیروت ۱۹۸۲ء

۲۔ میزان الاعتدال للذہبیؒ ج ۲ ص ۵۰۵

۳۔ الوقایہ بأحوال المصطفیٰ لابن الجوزیؒ ج ۱ ص ۳۳-۳۴

ان کے علاوہ مصنفین کے ایک گروہ نے حضرت آدمؑ علیہ السلام کی اسی حدیث کو چند اضافوں یا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اپنی تصانیف میں بلا اسناد روایت کیا ہے ، جیسا کہ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ : ” ابو محمدؒ اور ابواللیث سمرقندیؒ نے بیان کیا ہے کہ :

” اِنَّ اَدَمَ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ قَالَ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ
 (قَالَ وَيُزْوِيْ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ) فَقَالَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ اَيْنَ عَرَفْتِ مُحَمَّدًا
 قَالَ رَاَيْتُ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا لِّاِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا
 رَسُوْلَ اللّٰهِ (قَالَ وَيُزْوِيْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلًا) فَعَلِمْتُ
 اَنَّهُ اَكْرَمُ خَلِيْقِكَ عَلَيَّ كِتَابَ عَلَيْكَ وَعَفَّرَكَ لَهُ .“

” حضرت آدمؑ نے اپنے گناہ کے وقت کہا اے اللہ تجھے محمدؐ کے حق کی قسم میری خطا بخش دے اللہ نے کہا تو نے محمدؐ کو کیسے جانا ، آدمؑ نے جواب دیا : میں نے جنت کے ہر مقام پر لایا اللہ محمدؐ کو رسول اللہ لکھا دیکھا ، اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ عزیز ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا ۔“

قاضی عیاضؒ ، ابو محمدؒ اور ابواللیث سمرقندیؒ کی بیان کردہ مذکورہ بالا روایت پر علامہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ایک وقیع فیصلہ صادر فرمایا ہے جو ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں پیش کیا جائے گا ۔ ویسے بھی محدثین کے نزدیک بلا سند کسی حدیث کی روایت کھوٹے سکہ کا مقام بھی نہیں رکھتی ہے ، پس ساقط الاعتبار ہے ۔

علامہ ابوبکر الہجریؒ نے اپنی کتاب ” الشریعہ “ کے ایک دوسرے مقام پر اس حدیث کو تابعی ابوالزناد عبداللہ ابن ذکوان کا قول بیان کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں :

” قَالَ اَخْبَرَنَا ابُو اَحْمَدَ هَارُوْنُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ زَكَوِيْنَةَ النَّخَعِيُّ
 قَالَ حَدَّثَنَا ابُو مُرْوَانَ الْعُشْمَانِيُّ حَدَّثَنِى ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ اَبِي الزَّنَادِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي
 تَابَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلٰى اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ اللّٰهُمَّ طَيِّبْ
 اَسْمَلْتِكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ الْاِلهُ .“

لہ کتاب ” الشریعہ “ للہجری ۴۲۲-۴۲۵

ابوالبشر حضرت آدمؑ کی خطا

”کہا ہمیں خبر دی ابو احمد ہارون بن یوسف بن زیاد التاجر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو مروان العثماني نے کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابن عثمان بن خالد نے عبد الرحمن بن ابی الزناد سے، اس نے روایت کی اپنے والد سے کہ انہوں نے کہا: وہ کلمات کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول فرمائی یہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں آپ سے سختی تمہارا سوال کرتا ہوں اللہ!“

واضح رہے کہ اس حدیث میں ”أَدْعُنِي بِحَقِّهِ“ کے الفاظ موجود نہیں ہیں نیز یہ سند بھی مظلم ہے۔ اس سند کی پہلی خامی تو یہ ہے کہ ابو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن لکھا گیا ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ سند مقطوع ہے یعنی کسی صحابی تک بھی نہیں پہنچتی، تیسری خامی یہ ہے کہ اس سند کے تین رواۃ عند الحدیثین مجرد ہیں مثلاً: ابو مروان محمد بن عثمان بن خالد العثماني، کو اگرچہ امام بخاری نے ”صدوق“ اور ابو حاتم نے ”ثقة“ کہا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے فرماتے ہیں: ”صلح جزء“ کا قول ہے کہ ثقہ تو ہے مگر اپنے والد سے مناکیر روایت کرتا ہے۔ امام حاکم نے فرماتے ہیں: ”اس کی بعض احادیث میں مناکیر موجود ہیں“ ابن حبان نے کا قول ہے: ”خطا کرتا ہے اور مخالفت بھی کرتا ہے۔“ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرماتے ہیں: ”صدوق ہے مگر خطا کرتا ہے۔“ تفصیلی ترجمہ کے لئے تقریب، التہذیب لابن حجر، تہذیب التہذیب لابن حجر، اور میزان الاعتدال للذہبی وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

ابو مروان محمد بن عثمان بن خالد العثماني کے والد عثمان بن خالد العثماني کے متعلق حاکم، ابوالحکم اور ابو حاتم نے کا قول ہے کہ: ”منکر الحدیث“ ہے۔ نسائی نے فرماتے ہیں: ”ثقة نہیں ہے۔“ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرماتے ہیں: ”متروک الحدیث ہے۔“ علامہ ہشیمی نے بھی اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔ عقلی نے فرماتے ہیں: ”اس کی حدیث پر وہم غالب ہے، ابن عدی نے اس کی کئی احادیث روایت کی ہیں اور کہا ہے کہ اس کے پاس ان کے علاوہ بھی احادیث ہیں لیکن سب غیر محفوظ ہیں“ ساجی نے کا قول ہے: ”اس کے پاس

لے تقریب التہذیب لابن حجر، ص ۱۸۹، تہذیب التہذیب لابن حجر، ص ۳۳۶، میزان الاعتدال للذہبی، ص ۶۴

مناکیر ہیں۔ ابو نعیم صہبانیؒ اور ذوالحکم ابو عبد اللہؒ فرماتے ہیں: "مالکؒ سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے۔" ابن حبانؒ کا قول ہے کہ: "ثقات کی طرف سے مقلوبات روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ احتجاج درست نہیں ہے۔" علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں: "بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ ضعیف ہے اور اس کے پاس مناکیر ہیں۔" تفصیلی ترجمہ کے لئے ملاحظہ فرمائیں تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، مجمع الزوائد ومنیع الفوائد للہیثمیؒ، کتاب المجروحین لابن حبانؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، فہارس مجمع الزوائد للزغول، سلسلہ الأحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ للألبانی، وسلسلہ الأحادیث الصحیحۃ للألبانی وغیرہ۔

اس سند کا تیسرا مجروح راوی عبدالرحمن بن ابی الزناد ہے جس کو مالکؒ اور عبلیؒ نے "ثقة" کہا ہے لیکن یحییٰؒ کا قول ہے کہ "کچھ بھی نہیں ہے" ایک مرتبہ فرمایا کہ "اس کے ساتھ حجت نہیں ہے۔" ابو حاتمؒ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ نسائیؒ نے اسے "ضعیف" اور امام احمدؒ نے "مضطرب الحدیث" بتایا ہے امام احمد بن حنبلؒ کا ایک دوسرا قول ہے کہ "ضعیف" ہے۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں: "ابن معینؒ کا قول ہے کہ ضعیف تھا۔" ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں: "حدوث تھا لیکن اس کا حافظ متغیر ہو گیا تھا۔" علامہ ہیثمیؒ فرماتے ہیں: "ضعیف تھا لیکن بعض نے اس کی توثیق کی ہے۔" ایک مقام پر لکھتے ہیں: "اس پر بہت کلام کیا گیا ہے لیکن اس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔" دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: "ابن الحدیث ہے۔" اس کی حدیث منہ ہوتی ہے اور اس میں نفع ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: "ایک جماعت نے اس کی تفیہت کی ہے و تفصیلی ترجمہ کے لئے معرفتہ الثقات للعلیؒ، الضعفاء الکبیر للعلیؒ، کتاب المجروحین لابن حبانؒ، کتاب الضعفاء والمتروکین للنسائیؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، "الکامل" فی الضعفاء لابن عدیؒ،

۱۔ تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانیؒ، مجمع الزوائد للہیثمیؒ، کتاب المجروحین لابن حبانؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، فہارس مجمع الزوائد للزغول، سلسلہ الأحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ للألبانی، سلسلہ الأحادیث الصحیحۃ للألبانی،

میزان الاعتدال للذہبی، تقریب التہذیب لابن حجر عسقلانی، تہذیب التہذیب لابن حجر عسقلانی، تہذیب التہذیب للذہبی، تقریب التہذیب للذہبی، سلسلہ الأحادیث الصحیحہ للألبانی، مجمع الزوائد منبع الفوائد للہیثمی، اور فہارس مجمع الزوائد للزغلول وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس حدیث کے متعلق محدث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الألبانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث موقوف ہے۔ عثمان اور ابن عثمان ابو مردان دونوں ضعیف ہیں جن کے ساتھ احتجاج درست نہیں ہے اگرچہ وہ مرفوع حدیث ہی روایت کریں تو ان سے بعض اتباع تابعین کے موقوف قول کی روایت کس طرح حجت بن سکتی ہے جبے انہوں نے اہل کتاب یا نو مسلم اہل کتاب مثلاً کعب بن احبار وغیرہ یا ان کی غیر ثقہ کتب سے اخذ کیا ہو جیسا کہ شیخ الاسلام نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا ہے: ۱۔ رداۃ کے ضعف، ایس بیٹی، منکر الحدیث، الائق ترک، واہ، جمہول وغیر معروف، متغیر لفظ، سو لفظ عظیم الجوت، غیر محفوظ اور متروک الحدیث بلکہ متہم بالوضع ہونے کی مذکورہ بالا علتوں کے علاوہ ان روایات میں چند اور علتیں بھی موجود ہیں جو اس حدیث کو باطل، مضطرب اور موضوع قرار دیتی ہیں مثلاً: ۱۔ امام حاکم اور ابوبکر اسہری کی اسناد میں واضح طور پر اضطراب موجود ہے۔ چنانچہ حاکم کی سند میں ابوالحارث عبد اللہ بن مسلم الفہری جو کہ خود ایک مجہول راوی ہے مرفوعاً بیان

۱۔ صحیحۃ الأئودی للبارکفوری، ج ۱ ص ۹۹، سلسلہ الأحادیث الصحیحہ للألبانی، ج ۱ ص

ص ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵

کرتا ہے، "ثنا اسماعیل بن مسلمة انبا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب الخ۔" یعنی ہمیں اسماعیل بن مسلمہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے خبر دی کہا انہوں نے اس کے دادا سے اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی الخ۔ جبکہ یہی راوی ابو بکر الأجرى کی مرفوع سند میں اس طرح بیان کرتا ہے، "اخبرني سعيد بن عمرو قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن اسماعيل بن بنت ابى مريوق قال حدثني عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب الخ۔" یعنی مجھے سعید بن عمرو نے خبر دی کہا ہمیں ابو عبد الرحمن بن عبد اللہ بن اسماعیل بن بنت ابی مریم نے حدیث بیان کی کہا مجھے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے حدیث بیان کی جنہوں نے اس کے دادا سے اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی الخ۔

اسناد کے اس اضطراب کے علاوہ ابو بکر آجرى کی ایک دوسری سندیں کوئی دوسرا راوی اسے عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابيه موقوف بھی روایت کرتا ہے۔ اسناد میں اضطراب کی یہ موجودگی بھی اس حدیث کو ناقابل التفات ٹھہراتی ہے۔

۲۔ دوسری علت یہ ہے کہ حاکم کی روایت میں مروی ہے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی تخلیق کے بعد جب سرا پر اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی پر لا الہ الا اللہ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ سَآءَ مَا وَاپَايَا تھا جبکہ ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا تو وہ بہت گھبرائے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اذان دی۔ حضرت آدمؑ نے حضرت جبریلؑ کی اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت جبریلؑ نے حضرت آدمؑ کے استفسار پر فرمایا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آپ کہہ آخری اولاد میں۔ اصل روایت اس طرح ہے: "نَزَلَ اَدَمُ بِالْحَيْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِالْاَذَانِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدَاَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ اَدَمُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ اَخِرُ وُلْدِكَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔"

اس روایت کو ابن عباسؓ نے بطریق محمد بن عبداللہ بن سلیمان ناطلی بن بہرام اکوئی ناما عبدالملک بن ابی کریم عن عمرو بن قیس عن عطاء عن ابی ہریرۃ مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث بھی ضعیف الاسناد ہے لیکن اس سند کے رواۃ طبرانی، آجری، اور حاکم کی سابقہ اسناد کے رواۃ سے بلند جہا بہتر ہیں۔ اس سند میں علی بن بہرام ایک غیر معروف، راوی ہے علامہ پیشی نے بھی اس کے غیر معروف ہونے کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے: ”مجھے اس کا ترجمہ نہیں مل سکا۔“ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابو کریمہ سے روایت کرنے والے رواۃ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا نام علی بن یزید بن بہرام بتایا ہے جبکہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں یزید کو علی کا دادا قرار دیا ہے۔ کتب رجال میں محمد بن عبداللہ بن سلیمان نام کے در رواۃ کے تراجم ملتے ہیں، ان میں سے ایک کوئی اور دوسرا خراسانی ہے کوئی کو ابن مندہ نے ”مجهول“ بتایا ہے۔ خراسانی کو امام ذہبی نے موضوع احادیث روایت کرنے کے لئے متہم ٹھہرایا ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بظاہر محمد بن عبداللہ بن سلیمان سے مراد اول الذکر یعنی کوئی ہے۔ نیز یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس روایت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی حاکم، آجری، اور طبرانی رحمہم کی سابقہ روایات کے بطلان کی ایک واضح دلیل ہے۔

۳۔ تیسری علت یہ ہے کہ یہ حدیث کئی طرح سے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے: مثال کے طور پر۔

(الف) حاکم کی زیر نظر روایت میں مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا: ”يَا آدَمُ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا اَدَّكَ اَخْلَقَهُ؟“
(یعنی اے آدم! تو نے محمدؐ کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا ہے؟)

۱۔ ج ۲، ق ۲، ص ۲۳۳ ۲۔ جمع الزوائد لہیثی ج ۳، ص ۲۸۲

۳۔ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ج ۳، ص ۲۵۳ ۴۔ میزان الاعتدال للذہبی ج ۲، ص ۶۲

۵۔ ایضاً ج ۳، ص ۶۰۵ ۶۔ سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ

للالبانی ج ۱، ص ۳۹۶

تو حضرت آدمؑ جواب دیتے ہیں:

يَا رَبِّ إِنَّا كُنَّا خَلْقَتِي بِيَدِكَ وَانْفَعْتَنِي فِي مَن رَّوَّحِكَ رَفَعْتَ
رَأْسِي قَوَّيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لِآلِهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

یعنی اے رب! جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور میرے
اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر ادا پر اٹھایا تو عرش کے قوائم پر لڑا لڑا
رَأَى اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ آپ نے اے
اپنے نام کے ساتھ جو ملا ہے تو سب مخلوق میں آپ کو محبوب ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی عرش کے قوائم پر لکھے ہوئے کلمہ کو
دیکھ کر پڑھ لینا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لینا انتہائی
قابل گرفت امر ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اپنی تخلیق کے بعد ہر چھوٹی
بڑی چیز سے بالکل بے خبر و لاعلم تھے تا وقتیکہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کا علم
بخشا جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﷻ

ترجمہ:- اور (پھر) اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔

یہاں اگرچہ علم الاسماء کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے (بعض کہتے ہیں اس کے اسماء
سے مراد ان کی ذریت کے نام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ کے نام ہیں،
بعض کہتے ہیں کہ مختلف انواع کی چیزوں کے نام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ زمین پر موجود ہر
چیز کا نام ہے اور بعض کے نزدیک اسماء سے مراد ہر شے سخی کہ قصہ کا نام ہے)، مگر
مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کے فائدہ میں تحریر فرماتے ہیں، "تمام موجودات روئے
زمین کے اسماء و خواص کا علم سے دیا، اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ فرماتے ہیں:
آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔"

۱۵ سورة البقرة - ۳۱ فتح الباری لابن حجر العسقلانی ج ۶ ص ۱۶

۱۶ قرآن کریم ترجمہ و تفسیر اختصار شدہ بیان القرآن از اشرف علی تھانوی ص ۱۶ طبع تاج کینی

۱۷ تفسیر القرآن للمودودی ج ۶ ص ۶۳ حاشیہ ص ۶۴ -

ابوالشتر حضرت آدمؑ کی خطا

پس اگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم دیا ہوتا تو اس سوال پر معنی دار دہا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم نہیں دیا تھا حضرت آدمؑ کو انہیں خود اس کا علم کیونکر ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے استفسار پر اس مفصل جواب کے بجائے اپنی لاعلمی اور بے بقاععتی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔

(ب) روایت زیر مطالعہ میں یہ بھی مودی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و وسیلہ سے مغفرت طلب کی تھی حالانکہ قرآن کریم کی صریح آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کے قصور پر متنبہ کیا گیا تو اپنی خطا و لغزش کا احساس ہوتے ہی وہ انتہائی نادم و پریشان ہوئے اور فوراً اپنے قصور کا اعتراف کر کے ہاری تعالیٰ سے معافی مانگنے اور اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگے، ان کی حالت زار دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو وہ الفاظ بتائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس واقعہ کے متعلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودی مرحوم فرماتے ہیں :

”یعنی آدمؑ کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں تو انہیں وہ الفاظ نہتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشتی کے لئے دُعا کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیئے الخ۔“

قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

تَتَلَفَىٰ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۱﴾
ترجمہ: پس حاصل کر لئے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے (چند توبہ کے) کلمات تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی (یعنی ان کا قصور معاف فرما دیا) کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔

۱۰۱ ایضاً م ۶۷ حاشیہ ۵۱ ۱۰۱ سورۃ البقرہ - ۳۷

عربی لغت میں 'تلقی' کا معنی شوق و رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اس کو قبول کرنا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو حضرت آدم نے براہتمام و بشوق ان کلمات کو قبول کیا اور "توبہ" کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں۔ اگر بندہ توبہ کرے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکشی سے باز آکر بندگی کی طرف لوٹ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نام بندہ کی جانب دوبارہ اذرا و عنایت و رحمت متوجہ و ملقت ہو گیا۔

سورہ بقرہ کی آیت "فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ الْاِلٰهُ" کی تفسیر میں امام المفسرین و ترجمان القرآن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :-

قَالَ اَنَّى رَبِّ اَلْمُرْتَدِّ الَّذِي يَبِيْدُكَ قَالَ بَلَى قَالَ اَنَّى رَبِّ اَلْحَرِّ
تَنْفَعُ فِى مَنْ رُوْحًا قَالَ بَلَى قَالَ اَنَّى رَبِّ اَلْمُرْتَدِّ الَّذِي يَبِيْدُكَ
قَالَ بَلَى قَالَ اَلْمُرْتَدِّ رَحْمَتِكَ عَصَبَتِكَ قَالَ بَلَى قَالَ اَلرَّائِي
اِنَّ تُبَيِّنُ وَاَصْلَحَتْ اَنْتَ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَهَوَّ
قَوْلُهُ، فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ الْاِلٰهُ

"اہوم نے کہا: اے رب کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں، کہا اے رب کیا آپ نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں، کہا اے رب کیا آپ نے مجھے جنت میں جگہ نہیں دی؟ فرمایا کیوں نہیں، کہا کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، کہا اگر میں توبہ کروں اور نیکی کروں تو کیا آپ مجھے جنت میں واپس لے جائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ ابن جبلی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی بارے میں ہے: فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔"

۱۷ کنافی تفسیر روح المعانی للاکوسی واکشاف للازمخشری۔

۱۸ المستدرک للحاکم ج ۳ ص ۵۴۴

مقام پر اس طرح مذکور ہیں:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّكُم تَعْفِيرٌ لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝۱۶

”اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں
گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم زبردست خسارہ میں پڑنے والوں میں
ہو جائیں گے۔“

مشہور مفسرین میں سے ثعلبیؒ نے بطریقِ مکرمہ ”فَتَلَكَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ“ کی تفسیر
میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: وہ کلمات یہ تھے:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّكُم تَعْفِيرٌ لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“

ابن المنذر نے ابن جریر کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ کے اس قول (روایت) کی تخریج
کی ہے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی رحمہم اللہ نے بھی محمد بن کعب
القرظی سے اس کی تخریج کی ہے۔ دیلمی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے مجاہدؒ سے بھی
اس کی تخریج کی ہے۔ عبد بن حمید نے حسن اور شوکانہؒ سے بھی اس کی تخریج کی ہے۔

ابن جریر الطبریؒ نے قتادہ اور ابن زید سے بھی ایسی ہی روایت بیان کی ہے اور کہا
کہ: ”اللہ تعالیٰ کی کتاب ولادت کرتی ہے کہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے رب سے حاصل کئے تھے وہ وہی کلمات تھے جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے
دی ہے کہ انھوں نے اپنے رب سے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا:
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّكُم تَعْفِيرٌ لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝۱۶

قاضی بیضاویؒ اور علامہ نسفیؒ نے بھی ”فَتَلَكَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ“ کی تفسیر
میں اسی طرح فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ ”ابوالعالیہ کا قول ہے کہ
”فَتَلَكَّىٰ آدَمُ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۝۱۶

۱۶ سورة الاعراف ۳۳ ۱۶ القرآن المنثور ج ۱ ص ۵۹ ۱۶ تفسیر ابن جریر الطبری ج ۱ ص ۲۴۵۔

۱۶ القرآن المنثور ج ۱ ص ۵۹ ۱۶ جامع معری ص ۵۶ ۱۶ التذکرہ ج ۱ ص ۱۰۰ ۱۶ فتح الباری لابن حجر ج ۱ ص ۲۴۵۔

علامہ جلال الدین سیوطی بھی سورۃ البقرۃ کی آیت تَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: اَلْقَوْلُ اِيَّا هَا قِي قِرَاءَةٌ يَنْصَبُ آدَمَ وَرَفَعَ كَلِمَاتٍ اِي جَا كَمَا وَرَفَعِي رَبِّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ۷: ۲۳ دَعَا بِهَا كَلِمَةً

ماضی قریب کے مفسرین میں سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے بھی تفسیر القرآن میں سورۃ الاعراف کی اس آیت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے الفاظ بتایا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد حسن خان اور ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی المرکشی (سابق اساتذہ بالجامعۃ الاسلامیۃ، المدینۃ المنورۃ) نے بھی اپنی انگریزی تفسیر (EXPLANATORY

TRANSLATION OF THE MEANING OF THE HOLY

QURAN) میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳ کی شرح میں سورۃ الاعراف کی آیت ۲۳ کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے وہ کلمات بتایا ہے جو من جانب اللہ ان کو بتلائے گئے تھے۔ اور مولانا محمد شفیع مرحوم (سابق مفتی اعظم پاکستان) حضرت آدم کی توبہ کے کلمات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے اس

میں مفسرین صحابہؓ سے کئی روایات منقول ہیں، مشہور قول حضرت ابن عباسؓ

کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں یعنی

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْهٰۤ اِنَّ

ان مفسرین کے برخلاف مصری عالم سید رشید رضا نے بعض لوگوں کے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ ان کلمات سے مراد رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا نہیں ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے اس قول کی تضعیف سید رشید رضا سے بہت قبل علامہ حافظ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں فرما چکے ہیں جو اس موقف کے بطلان کیلئے خوب اور کافی ہے۔ فجزاہ اللہ العزیز العزیز (جاری ہے)

۱۔ تفسیر الجلالین علی ہوامش القرآن الکریم ۷ طبع مکتبۃ الشعبیۃ بمصر ۱۹۷۷ء تفسیر القرآن للمودودی ج ۲ ص ۱۳۳

۲۔ ترجمۃ المعانی للقرآن الکریم لابن کثیر باللغۃ الامیکیۃ۔ از ڈاکٹر محمد حسن خاں و ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی

۳۔ طبع ہلال بیکنگ ہاؤس انقرہ ۱۹۷۷ء ۴۔ معارف القرآن از مولانا محمد شفیع مرحوم ج ۱ ص ۱۱۷ تفسیر المنار

سید رشید رضا ج ۱ ص ۲۷۹ ۵۔ ابن کثیر ۱ ص ۸۱